

## 39488 - ملازم کا ہدیہ قبول کرنا اور اس کی اولاد کا اس سے فائدہ اٹھانا

### سوال

میرے والد صاحب ملازم ہیں بعض لوگ دفتر میں انہیں بطور ہدیہ کبھی پیسے اور کبھی کوئی چیز ہدیہ دیتے ہیں کچھ مدت تک تو وہ یہ اشیاء لینے سے باز رہے لیکن پھر جلد ہی یہ اشیاء لینا شروع کر دیں ، اور مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہدیہ دینے اور نہ دینے والے میں کوئی فرق نہیں کرتا ، جو کچھ ہم اشیاء جمع کرتے ہیں اس کے بارہ میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ( کھانا پینا اور لباس وغیرہ ) اور جب کھانے کے لیے کوئی چیز ہدیہ دی جائے تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں ، بلکہ ایک بار تو بعض لوگوں سے مجھے یہ لباس لینے پر مجبور بھی کیا تو کیا میرے لیے یہ لباس پہننا جائز ہے ؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

آپ کے والد کے لیے ملازمت کی بنا پر دیے گئے ہدیے قبول کرنے جائز نہیں اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے:

ابوحمید الساعدي رضي الله تعالى بيان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلي الله عليه وسلم نے ایک شخص کو زکاۃ لینے پر مقرر کیا جب وہ زکاۃ اکٹھی کر کے واپس آیا تو نبی صلي الله عليه وسلم کے پاس آکر کہنے لگا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلي الله عليه وسلم یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے ، تو رسول کریم صلي الله عليه وسلم اسے فرمانے لگے :

تو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ رہتا اور دیکھتا کہ تجھے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ، پھر رات کو نماز کے بعد رسول کریم صلي الله عليه وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے اور فرمایا :

اما بعد: اس ملازم کا کیا حال ہے جسے ہم کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آکر کہتا ہے کہ یہ تمہارے کام کی بنا پر ہے اور یہ چیز مجھے ہدیہ دی گئی ہے ، کیوں نہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ رہتا اور پھر دیکھے کہ کیا اسے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلي الله عليه وسلم کی جان ہے تم میں جو کوئی بھی کسی چیز میں خیانت کرے گا وہ روز قیامت آئے گا تو اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا اگر وہ اونٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ آئے گا اور اونٹ کی آواز ہوگی ، اور اگر گائے ہے تو وہ اسے لیکر آئے گا اور

گائے آواز نکال رہی ہوگی ، اور اگر بکری ہوئی تو وہ اسے لے کر آئے گا اور وہ ممنا رہی ہوگی ، میں نے پہنچا دیا .  
ابوحمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا حتیٰ کہ ہم نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی .

( الرغاء ) مد کے ساتھ اس کا معنی اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں .

( خوار ) گائے کی آواز

( تیعر ) اس کا معنی ہے کہ چیخ رہی ہوگی اور الیعار بکری کی آواز کو کہتے ہیں .

( پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ہم نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی ) عقرة الابط بغلوں کی سفیدی کو کہتے ہیں .

تو آپ کے والد کو بھی یہی کہا جائے گا جس طرح رسول کریم صلی اللہ نے فرمایا تھا: تو اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھ رہتا اور پھر دیکھ کہ تجھے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں .

اس لیے کہ یہ ہدیے تو صرف تیرے عہدہ کی بنا پر تجھے مل رہے ہیں ، اور جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ اس کے کام کا حق ہے اسے کوئی حق نہیں کہ وہ یہ ہدیہ اپنی ملکیت میں لائے .

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ :

( یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ اس کے ذمہ جو بھی کام لگایا گیا ہو وہ اسے پورا کرے اور اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ملازمت کی بنا پر کوئی ہدیہ لے اور اگر وہ لے بھی تو اسے بیت المال میں رکھنا چاہیے ، اس صحیح حدیث کی بنا پر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود لے جائے ، اور اس لیے بھی کہ یہ شر اور برائی کا وسیلہ اور امانت میں خلل پیدا کرنا ہے ) دیکھیں : فتاویٰ علماء بلد الحرام صفحہ (655)  
اور امام احمد اور امام بیہقی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ملازموں کے ہدیہ جات خیانت ہیں . علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح الجامع ( 7021 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے .

اور آپ کے والد کا یہ کہنا کہ میں ہدیہ دینے اور نہ دینے والے میں کوئی فرق نہیں کرتا یہ ہدیہ لینے کو حلال نہیں کرتا ،

لیکن اگر کوئی ہدیہ نہ دے تو وہ اسے نقصان دے تو اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے .

اور اس کا یہ یقین کے ساتھ کہنا کہ ہدیہ دینے اور نہ لینے والے میں کوئی فرق نہیں کرتا اس میں شبہ ہے اور اس کی یہ بات محل نظر ہے ، اس لیے کہ انسان کے دل میں ہدیہ کی تاثیر ہوتی ہے اور انسان کی جبلت میں یہ داخل ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی احسان کرے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے ، لہذا یہ ہدیہ آپ کے والد کو ہدیہ دینے والے کی محبت پر اکسائے گا جس کی بنا پر وہ اسے وہ کچھ دے گا جس کا وہ مستحق نہیں تھا .

لہذا اسے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس فانی دینا کے مال و متاع سے بے رغبتی کرنی چاہیے ، اور دنیا کا سارا مال ہی ایسا ہے تو پھر حرام مال کیسا ہوگا ! ؟

جو کچھ اس نے ہدیہ جات میں حاصل کیا ہے آپ کے لیے انہیں استعمال کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں اس لیے کہ وہ حرام ہے .

اور آپ نے اس کی تنخواہ میں جو کچھ جمع کیا ہے جو وہ اپنی جائز ملازمت کے بدلے حاصل کر رہا ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں .

اور وہ لباس جسے لینے پر مجبور کیا گیا ہے اگر تو اس نے عام پیسوں سے خریدا ہے اسے زیب تن کرنے میں کوئی حرج نہیں ، اور اگر اس نے ہدیہ لیا ہے یا اس کی رقم میں کوئی شک ہے تو آپ اسے نہ پہنیں ، اور اپنے والد کو وعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کریں اور انہیں حرام مال کی خطرناکی سے آگاہ کریں اور انہیں اہل علم سے سوال کرنے پر ابھاریں تا کہ اس کا شک و شبہ زائل ہو .

واللہ اعلم .